

Press Release

December 17, 2015

For immediate release

SECP, KSE jointly organizes seminar on financial literacy under its “Youth Program”

ISLAMABAD, December 17, 2015: The Securities and Exchange Commission of Pakistan (SECP) as part of its youth program organized a day-long seminar on financial literacy and personal financial planning in collaboration with the Karachi Stock Exchange at its headquarters in Islamabad.

The seminar was specially arranged for university students and was widely attended by over 300 students from Islamabad area universities including Qaid-i-Azam, NUST, Air, Foundation, University of Lahore, Capital University of Science and Technology, vice chancellors as well as deans and heads of departments.

Students were introduced to the concept of capital market, savings, and investments, various asset classes, management of risk, investors’ rights and financial planning by financial industry experts.

Dr. Mukhtar Ahmad, chairman HEC was the chief guest. In his address he appreciated SECP’s Jamapunji investor education campaign. He encouraged the students to learn about savings and also develop a culture of good ethics and fair play. He suggested to the university faculty attending, that students should be taught entrepreneurship, and incubation centers should be set up to encourage creation and development of new businesses. He appreciated SECP for organizing such a useful and informative seminar.

Chairman SECP, Zafar Hijazi, in his address said that creating awareness about investments and investor’s rights is the regulator’s responsibility and the SECP has been making utmost efforts through its Jamapunji investor education campaign. He highlighted SECP’s role for the protection of investors through effective regulation and enforcement. Zafar Hijazi noted that the capital market has helped raise over Rs1000 billion, which is a huge contribution to the development of our economy. He further added that the capital market can provide protection against inflation, keeping in view that the average 10 year return (2005-2014) for the KSE 100 index of 24% against 10 % average annual rate for inflation over the same period. He urged universities who have signed MoUs with SECP to utilize stock trading simulators provided to them for training their students in building portfolios and analyzing stocks. Chairman Hijazi advised the students to follow prudent investment principles and consider investing in mutual funds. Mutual funds are ideal for low income investors as these can provide them liquidity, professional management, safe custody and diversification.

At a special ceremony during the seminar, Foundation University Islamabad and Capital University of Science and Technology Islamabad entered into MoUs with SECP for holding regular seminars to educate existing and incoming students about the basics of savings, financial planning, investing and capital markets. The MoUs were signed by Mr. Akif Saeed, SECP Commissioner, IE& IRD, and Major General (ret) Khadim Hussain, Foundation University and Mr. Malik Arshad Mahmood Registrar, Capital University of Science and Technology Islamabad respectively, on behalf of their institutions. The ceremony concluded with the distribution of certificates to students.

ایس ای سی پی اور کراچی اسٹاک ایکس چینج کا انوسٹر ایجوکیشن سیمینار، اسلام آباد کی تمام اہم یونیورسٹیوں کے طلباء کی شرکت

ایس ای سی پی سرمایہ کاروں کے تحفظ کے لئے ہر ممکن اقدام کر رہا ہے؛ ظفر حجازی فنانشل مینجمنٹ اور ڈسپلن سے آگاہی افراد اور اداروں، دونوں کے لئے ضروری ہے: چیئرمین ہائیر ایجوکیشن ڈاکٹر مختار کیپیٹل مارکیٹ ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے؛ ایم ڈی کے ایس ای ندیم نقوی

اسلام آباد (۱۷ دسمبر) سکیورٹیز اینڈ ایکس چینج کمیشن آف پاکستان نے کراچی اسٹاک ایکس چینج کے تعاون سے نوجوانوں کو فنانشل پلاننگ اور مالیاتی ڈسپلن سے آگاہی دینے کے لئے سیمینار منعقد کیا گیا۔

چیئرمین ہائیر ایجوکیشن کمیشن تقریب کے مہمان خصوصی تھے جبکہ اسلام آباد کی تمام بڑی یونیورسٹیوں بشمول قائد اعظم یونیورسٹی، انسٹی، انٹر یونیورسٹی، فاؤنڈیشن یونیورسٹی، یونیورسٹی آف لاہور، کیپیٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے تین سو سے زائد طلباء اور فکیلٹی ممبران سے سیمینار میں شرکت کی۔ سیمینار کے شرکاء کو کیپیٹل مارکیٹ، بچتوں کی اہمیت، سرمایہ کاروں کے حقوق و ذمہ داریوں اور سرمایہ کاری کے دستیاب مواقعوں کے بارے میں بتایا گیا۔

تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہائیر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین جناب ڈاکٹر مختار نے کہا کہ فنانشل مینجمنٹ اور ڈسپلن سے آگاہی نہ صرف افراد کے لئے ضروری ہے بلکہ مالیاتی نظم اور منصوبہ بندی کے حوالے سے تربیت اداروں کے لئے بھی انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ مالیاتی ڈسپلن پر آگاہی سیمینار کے اقدام کو سراہتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک میں ایک ایسا ماحول قائم کرنے کی ضرورت ہے جس سے بچتوں کو فروغ ملے اور سرمایہ کاروں کو تحفظ میسر ہو اور مالیاتی اداروں پر ان کا اعتماد مستحکم ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس سلسلہ میں دوسرے اداروں کو بھی سامنے آنا چاہیے اور دسگاہوں اور مارکیٹ میں تعلق قائم کیا جاسکے۔ ڈاکٹر مختار نے کہا کہ ملک میں نوجوانوں کی تعداد کل آبادی کا ساٹھ فیصد سے زائد ہے اور اتنی بڑی تعداد میں نوجوان پاکستان کے روشن مستقبل کی ضمانت ہیں، انہوں نے کہا کہ طالب علموں کو ملازمتوں کے بجائے کاروبار شروع کرنے کی جانب توجہ دینی چاہیے جس کے ذریعے وہ ملکی ترقی میں زیادہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔

اس موقع پر ایس ای سی پی کے چیئرمین جناب ظفر حجازی نے کہا کہ سرمایہ کاروں کے سرمائے کا تحفظ بطور ریگولیٹری ذمہ داری ہے اور ایس ای سی پی اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لئے ہر ممکن اقدام اٹھا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایس ای سی پی کا آگاہی پروگرام جمع پونجی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ظفر حجازی نے کہا کہ کیپیٹل مارکیٹ ملک کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ گزشتہ دس برسوں میں کیپیٹل مارکیٹ کے ذریعے ایک ہزار ارب روپے سے زائد کے فنڈز فراہم کئے گئے۔ نوجوان طلباء کو کیپیٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری سے متعلق ایڈوائس دیتے ہوئے ظفر حجازی نے کہا کہ کیپیٹل مارکیٹ میں سرمایہ کاری ایک فائدہ مند فیصلہ ہے کیونکہ کیپیٹل مارکیٹ ہی افراط زر کے مقابلے میں بہتر ریٹرن اور منافع دیتی ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ نئے سرمایہ کاروں کو اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنے کے لئے مٹیوچل فنڈز سے رہنمائی لینی چاہیے کیونکہ نا تجربہ کاری میں کی گئی سرمایہ کاری نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔

سیمینار کے دوران مالیاتی نظم و ضبط سے آگاہی پر تعاون کے لئے فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد،



SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

Media and Corporate Communications Department

کیپیٹل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اور ایس ای سی پی کے مابین مفاہمتی یادداشتوں پر بھی
دستخط کئے گئے۔